

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

3 جون 2020

پریس ریلیز

جامعہ اور سکم یونیورسٹی کے اشتراک سے شمال مشرقی ہندوستان میں شہرکاری کے موضوع پر
کتاب کی اشاعت

جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سکم یونیورسٹی نے مشترکہ طور پر 'شمال مشرق ہند میں تفہیم شہر کاری :
مسائل اور چیلنجز' کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی ہے ۔
2020 میں روٹلیج (ٹیلر اور فرانسس گروپ) ، آکسن اور نیو یارک کے ذریعہ شائع ہونے والی کتاب کو
پروفیسر ایم امرجیت سنگھ ، سینئر برائے نارٹھ ایسٹ اسٹڈیز اینڈ پالیسی ریسرچ (سی این ای ایس پی
آر) ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور ڈاکٹر کومول سنگھا ، شعبہ معاشیات ، سکم یونیورسٹی ، گنگٹوک نے
مشترکہ طور پر ادارت کیا ہے۔

کتاب بنیادی طور پر ہندوستان کے شمال مشرقی خطے میں شہرکاری کی نوعیت، ماحول ، بنیادی
ڈھانچے اور خطے کے سماجی و اقتصادی حالات پر اس کے اثرات سے بحث کرتی ہے۔
14 مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سرحدی تمدن ، سمارٹ سیٹی ، دیسی فن تعمیر ، گلی کوچے اور
کچروں کو ٹھکانے لگانے، پانی کے نکاسی جیسے موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ۔
یہ کتاب سکم یونیورسٹی شعبہ معاشیات اور سی این ای ایس پی آر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ذریعہ
مشترکہ طور پر نومبر 2018 میں منعقدہ سیمینار کا حاصل ہے۔ اس سیمینار کا انعقاد ہندوستانی کونسل
برائے سوشل سائنس ریسرچ ، نئی دہلی کے مالی تعاون سے کیا گیا تھا ، جس میں بڑی تعداد میں ماہرین
، اساتذہ ، طلباء وغیرہ نے شرکت کی تھی۔

مدیران کو امید ہے کہ یہ کتاب سے نہ صرف پہاڑی خطے میں شہر کاری کے رجحان اور اس کی
باریکیوں سمجھنے کا ذریعہ بنے گی گی بلکہ خصوصی طور پر شمال مشرقی خطہ میں شہری
مطالعات نیز ہند میں عمومی طور پر شہری مسائل سے نمٹنے میں کارگر ثابت ہوگی ۔

احمد عظیم

پی آر او میڈیا کوآرڈینیٹر